

150788 - کیا معاشرتی اسباب کی بنا پر دور والا ولی نکاح کی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے؟

سوال

کیا اصلی ولی کی موجودگی میں معاشرتی اسباب کی بنا پر دور والا ولی لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

نکاح میں ولی ہونا ایک عظیم امر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کی حفاظت اور اس کے حقوق کی رعایت اور عورت کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے ولی کا ہونا اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا ہے، چنانچہ عورت کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا نکاح خود کر لے یا کسی دوسری عورت کا نکاح کر سکے، اور عورت کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ نکاح میں اپنا ولی یا وکیل خود اختیار کرے، بلکہ ولی کی ترتیب شریعت نے مرتب کر رکھی ہے، اور یہ بندوں کی جانب سے وضع کردہ نہیں.

بہوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"آزاد عورت کا نکاح کرنے کے لیے اس کے والد کو مقدم کیا جائیگا؛ کیونکہ اس کا والد زیادہ نظر رکھنے والا اور شدید شفقت کا مالک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا وصی جسے وہ وصیت کرے.

یعنی نکاح میں اس کے قائم مقام والد کا وصی ہوگا، اور پھر دادا اور پردادا وغیرہ، قریب سے قریب والا؛ کیونکہ اسے عصبی طور پر حق ہے، لہذا وہ باپ کے مشابہ ہوا، پھر عورت کا بیٹا اور پوتا اور پرپوتا وغیرہ قریب سے قریب تر.

اس کی دلیل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ان کی عدت ختم ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا.

تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہاں کوئی ولی موجود نہیں.

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرا کوئی یہاں موجود یا غائب ولی اسے ناپسند نہیں کریگا "

تو ام سلمہ کہنے لگیں: اے عمر اٹھو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دو، تو عمر نے ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا " اسے امام نسائی نے سنن نسائی میں روایت کیا ہے۔

پھر اس کے بعد عورت کا سگا بھائی اور پھر وراثت کی طرح باپ کی طرف سے بھائی اور پھر ان کے بیٹے، پھر سگا چچا اور پھر باپ کی جانب سے چچا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، پھر ان کے بیٹے، جیسا کہ وراثت میں بیان ہوا ہے۔

پھر وراثت کی طرح قریب ترین سببی عصبہ لہذا بھائیوں کے بعد وراثت میں زیادہ حقدار عصبہ ہوگا وہی ولی میں بھی زیادہ حقدار ہے؛ کیونکہ ولایت تو شفقت و دیکھ بھال اور نظر پر مبنی ہے، یہی ظنی طور پر معتبر ہے یعنی رشتہ داری پھر آزاد کرنے والا کیونکہ وہ اس عورت کا وارث ہوگا اور دیت بھی دے گا۔

پھر قریب ترین نسبی عصبہ جیسا کہ میراث میں ترتیب ہے، پھر اگر یہ اولیاء نہ ہوں تو پھر ولاء کا عصبہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، پھر حاکم یا اس کا نائب۔

امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" اس مسئلہ میں میرے نزدیک امیر کی بجائے قاضی زیادہ بہتر ہے، اور اگر یہ سب اولیاء معدوم ہو جائیں تو اس کی جگہ سلطہ اور طاقت رکھنے والا شخص اس کی شادی کرائے گا " انتہی

دیکھیں: الروض المربع (335 - 336) .

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" عقد نکاح میں پانچ قسم کی جہات کے افراد ولی بنیں گے: باپ دادا کی جہت، پھر بیٹے کی جہت، پھر بھائی کی جہت، پھر چچا کی جہت، اور پھر ولاء۔

اگر ولی ایک ہی جہت کے ہوں تو قریب تر رتبہ والے کو مقدم کیا جائیگا، اور اقرب یعنی قریب ترین وہ ہے جو محجوب سے قبل دوسرے کے ساتھ جمع ہوتا ہو، دادے تک تین واسطے والا چار واسطے والے سے اقرب کہلائیگا، اور اگر وہ ایک ہی مرتبہ میں ہوں تو پھر قوی مرتبہ اور رشتہ والا ولی بنے گا، جیسا کہ سگا بھائی اور باپ کی جانب سے بھائی ہو تو یہاں سگا بھائی ولی بنے گا " انتہی

دیکھیں: الشرح الممتع (12 / 84) .

دوم:

اولیاء کے مابین اسی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے جیسا کہ بیان کی گئی ہے، اس لیے عقد نکاح میں کسی دور والے ولی کو قریب ترین ولی پر مقدم نہیں کیا جائیگا۔

ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اگر قریب ترین ولی کے ہوتے ہوئے کوئی دور والا ولی عورت کی شادی کر دے اور وہ عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اس کی بات مانتے ہوئے شادی کر لے تو یہ صحیح نہیں ہوگی۔

اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ شادی صحیح ہو گی کیونکہ قریب ترین ولی کی طرح یہ بھی ولی ہے، اور وہ عورت کی اجازت سے اس کی شادی کریگا۔

ہمارا قول یہ ہے کہ: یہ عصبہ کی بنا پر مستحق ہوگا، اس لیے وراثت کی طرح قریب ترین ولی کی موجودگی میں دور والے ولی کے لیے ولایت ثابت نہیں ہوتی، تو اس طرح قریب ترین ولی نے دور والے ولی میں فرق کر دیا " انتہی

دیکھیں: المغنی (7 / 364) اور الموسوعة الفقهية (33 / 90) بھی دیکھیں۔

بہوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" اگر بغیر کسی عذر کے عورت کی شادی کسی دور والے یا پھر کسی اجنبی نے کر دی چاہے وہ حاکم ہی ہو تو عقد کرنے والے کی عدم صلاحیت اور مستحق ولی کے موجود ہونے کی بنا پر یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا " انتہی

دیکھیں: الروض المربع (336)۔

اگر قریب ترین ولی ولایت کا اہل نہیں تو پھر اسے چھوڑ کر دور والے ولی کو نکاح میں ولی بنایا جا سکتا ہے:

الحجاوی رحمہ اللہ زادالمستقنع میں رقمطراز ہیں:

" اور اگر قریب ترین ولی عورت کو شادی سے روک دے اور وہ ولایت کا اہل نہ ہو یا پھر وہ وہاں سے غائب ہو اور وہاں تک پہنچنے میں مشقت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو پھر دور والا ولی اس عورت کی شادی کریگا "

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں:

" قولہ: اہلا: یعنی وہ ولایت کا اہل نہ ہو مثلا چھوٹی عمر کا ہو یا پھر فاسق و فاجر ہو یا پھر دوسرا دین رکھتا ہو یا اس طرح کا کوئی اور عذر تو پھر نااہل کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی موجودگی کا کوئی فائدہ نہیں " انتہی

دیکھیں: الشرح الممتع (12 / 89) .

حاصل یہ ہوا کہ: قریب ترین ولی کے ہوتے ہوئے دور والا ولی بغیر کسی شرعی عذر کے عورت کی شادی نہیں کر سکتا .

اس لیے اگر سوال میں بیان کردہ معاشرتی اسباب ولی کو عقد نکاح سے روکتے ہیں مثلاً یہ کہ وہ بے وقوف ہے اور معاملات نپٹانے کا سلیقہ نہیں یا پھر فاسق ہے یا کوئی اور شرعی عذر ہو تو پھر دور کے ولی کے لیے نکاح کرنا جائز ہے .

لیکن اگر یہ معاشرتی ایسے ہیں جن کا کسی شرعی مانع سے تعلق ہی نہیں تو پھر ان اسباب کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائیگا، اور قریب والے والی کو پہلانگ کر دور والے ولی کی ولایت میں نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اقرب ولی کو شریعت نے ولایت کا حق دیا ہے جو اس سے بغیر کسی شرعی سبب کے نہیں چھینا جا سکتا .

اس لیے اگر لوگوں کو کسی سبب کے باعث دور والے ولی کی ولایت میں نکاح کرنے کی ضرورت ہو اور قریب والا ولی اس پر راضی ہو تو قریب ترین ولی کو حق حاصل ہے کہ وہ دور والے ولی یا پھر کسی دوسرے کو جو عقد نکاح کرنے کے لیے صالح ہو کو اپنا وکیل اور نائب بنائے چاہے اس شخص کو اصل میں ولایت حاصل ہی نہیں وہ بھی وکیل بن سکتا ہے .

مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے درج ذیل سوال کیا گیا:

بعض اوقات بھائی یا دادے کے موجود ہوتے ہوئے عورت کا بھائی نائب ولی یا ولی کی موافقت کا کہہ کر نکاح کر دیتا ہے تو کیا ان طریقہ سے نکاح صحیح ہوگا ؟ یعنی اعلیٰ مرتبہ کا ولی ہونے کی صورت میں ادنیٰ مرتبہ والا ولی عورت کا نکاح کر سکتا ہے ؟

کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا:

" اگر قریب ترین ولی کے موجود ہوتے ہوئے بغیر کسی شرعی عذر اور سبب کے دور والا ولی عورت کا عقد نکاح کرے جس میں قریب والے ولی کی اجازت و وصیت بھی شامل نہ ہو تو وہ عقد نکاح باطل ہے، اور اس کا کیا ہوا نکاح صحیح نہیں کیونکہ اسے اس سے قریب والے مستحق ولی کے ہوتے ہوئے دور والے ولی کو ولایت ہی حاصل نہیں .

لیکن اگر قریب والا یا ولایت کی اہلیت والا ولی ولایت سے دستبردار ہو جائے یا دوسرے کو وصیت کرے کہ اس کی ولایت میں موجود عورت کا نکاح کر دے تو یہ نکاح جائز ہوگا، اور یہ نکاح صحیح ہے؛ کیونکہ یہ اس کا حق تھا اور وہ اپنے حق سے دستبردار ہو کر یہ حق دوسرے کو دے گیا ہے تو وہ اس کے قائم مقام ہوگا .

اس بنا پر اگر عورت کے ولی نے اپنا حق عورت کے بھائی کو تفویض کر دیا ہے تو بھائی اس کا عقد نکاح کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

مستقل فتویٰ اینڈ علمی ریسرچ کمیٹی۔

ممبر کمیٹی: الشیخ بکر ابو زید۔

ممبر کمیٹی: الشیخ صالح الفوزان۔

ممبر کمیٹی: الشیخ عبد اللہ بن غدیان۔

نائب چیئرمین کمیٹی: الشیخ عبد العزیز آل شیخ۔

چیئر مین کمیٹی: عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز۔ انتہی

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (18 / 174)۔

واللہ اعلم .